

بِسْمِ اللّٰهِ اَوْ قرآن سمجھیں - آسان طریق سے کورس - 3: شہیت برائے الفاظ معنی
صفحہ 6a: ہدایت اور نتیجہ
هَبِطْ يَهْبِطْ اِهْبِطْ هَابِطْ مَهْبُوطْ هَبُوطْ ہبٹ یہبٹ اہبٹ ہابٹ مہبوط ہبوط
اِنَّا يَا تَيْبَتُكُمْ يَتِي هُدَى جب تمہیں پہنچے مجھ سے کوئی ہدایت
اَلَى يَا تَيْبَتِ اَيْبَتِ اَيْبَتِ مَائِي اَيْبَانِ اَلَى يَهْدِي اِهْدِي اِهْدِي هَادِي مَهْدِي هُدَى اِهْدَانِيَّةِ اَلَى يَهْدِي اِهْدِي اِهْدِي هَادِي مَهْدِي هُدَى اِهْدَانِيَّةِ
تَبِعْ يَتَّبِعْ اَتَّبِعْ تَابِعْ مَتَّبِعْ تَبِعْ وَلَا هُمْ يَخْتَرُونَ اور نہ وہ چاہیں ہوں گے
حِرَى يَحْرِى اِحْرَى حَارِى مَحْرُونَ حُرَى هَمْ فِيهَا خِلْدُونَ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے
خَلَدٌ يَخْلُدُ اَخْلُدُ خَالِدٌ - خُلُودٌ خَافٌ يَخَافُ خَفٌ خَافٍ مَخُوفٌ خَوْفٌ كَفَرٌ يَكْفُرُ اَكْفُرُ كَافِرٌ مَكْفُورٌ كُفْرٌ
آیہ - آیات + گرامر 6a: تعارف مزید فیہ علم، اَسَلَمَ مزید فیہ احوال کی مثالیں
صفحہ 6b: بنی اسرائیل کو دعوت
ذَكَرٌ يَذْكُرُ اَذْكُرُ ذَاكِرٌ مَذْكُورٌ ذِكْرٌ يَغْتَمَةُ - نَعْمَتٌ اَوْفُوا بِعَهْدِي پورا کرو میرا وعدہ وَأَيَّاهِ فَارْتَبِئُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو
رَهْبٌ يَرْهَبُ اِرْهَبُ رَاهِبٌ مَرْهُوبٌ رَهْبَةٌ كَانَ يَكُونُ كُنَى كَابِنٌ - كَوْنٌ وَلَا تَشْفَرُوا بِالْبَنِي اور عرض نہ لو میری آیات کا
نَمَنَا قَلِيلًا تھوڑی سی قیمت
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے بِالْحَاطِلِ لَبِيسٌ يَلْبِيسُ اِلْبِيسُ لَابِيسٌ مَلْبُوسٌ لَبِيسٌ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور (تہ) چھپاؤ حق کو
كَتَمٌ يَكْتُمُ اَكْتُمُ كَاتِمٌ مَكْتُومٌ كِتْمَانٌ عَلِمٌ يَعْلَمُ اِعْلَمُ عَالِمٌ مَعْلُومٌ عِلْمٌ گرامر 6b: سَبَّحْ (اس نے باکی بیان کی) عَلَّمَ (اس نے سکھایا) عَلَّمَ يَعْلَمُ عِلْمٌ مَعْلَمٌ مَعْلَمٌ تَعْلِيمٌ سَبَّحْ يَسْبِحُ سَبَّحَ مَسْبُوحٌ مَسْبُوحٌ تَسْبِيحٌ
صفحہ 6c: نیک کام کرو!
رَكِعٌ يَرْكِعُ اِرْكِعْ رَاكِعٌ - رُكُوعٌ وَارْكِعُوا مَعَ اور رکوع کرو رکوع کرنے الزكيعين والوں کے ساتھ
أَمْرٌ يَأْمُرُ مَأْمُورٌ مَأْمُورٌ أَمْرٌ وَتَسْمُونَ اَنْفُسَكُمْ اور تم بول جاتے ہو اپنے آپ کو
نَفْسٌ - اَنْفُسٌ + جان
نَسِيٌّ يَنْسِي اَنْسَى نَائِسٌ نَسِيَةٌ نَسِيَانٌ تَلَا يَتْلُو اَتْلُ تَالٌ مَتْلُوءٌ تِلَاوَةٌ كِتَابٌ - كُتُبٌ + کتاب
عَقَلٌ يَعْطِلُ اِعْقَلُ عَاقِلٌ مَعْقُولٌ عَقْلٌ وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور یہ بڑی دشوار (بھاری) ہے

كَبِيرَةٌ X صَغِيرَةٌ بڑا x چھوٹا
خَشَعٌ يَخْشَعُ اِخْشَعُ خَاشِعٌ - خُشُوعٌ ظَلٌّ يَظُلُّ ظَلٌّ ظَانٌّ مَظْنُونٌ ظَلٌّ مَلْفُوقًا رِبْتَهُمْ اپنے رب سے ملنے والے ہیں
رَجَعٌ يَرْجِعُ اِرْجِعْ رَاجِعٌ - رُجُوعٌ گرامر 6c: خَاسِبٌ (اس نے حساب لیا) هَاجِرٌ (اس نے ہجرت کی) خَاسِبٌ يَخَاسِبُ عَاسِبٌ مَخَاسِبٌ مَخَاسِبٌ مَخَاسِبَةٌ هَاجِرٌ يَهَاجِرُ هَاجِرٌ مَهَاجِرٌ مَهَاجِرٌ مَهَاجِرَةٌ
صفحہ 6d: اس دن سے ڈرو!
ذَكَرٌ يَذْكُرُ اَذْكُرُ ذَاكِرٌ مَذْكُورٌ ذِكْرٌ أَنْعَمٌ يُنْعِمُ اَنْعِمُ مَنْعَمٌ مَنْعَمٌ اِنْعَامٌ اَتَيْنَ فَصَلْتَكُمْ اور یہ کہ میں نے تمہیں نصیحت دی
فَضْلٌ يَفْضِلُ اِفْضَلُ مَفْضِلٌ مَفْضُلٌ تَفْضِيلٌ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنِ نہ بدلے گا کوئی شخص نَفْسٍ شَيْئًا کسی شخص کا کچھ بھی
جَزَى يَجْزِي اَجْزَى جَازٍ مَجْزِيٌّ جَزَاءٌ يَوْمٌ - اَيَّامٌ + دن
وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا اور نہ قبول کی جائے گی اس شَفَاعَةً سے کوئی سفارش
قَبِلٌ يَقْبَلُ اِقْبَلُ قَابِلٌ مَقْبُولٌ قَبُولٌ أَخَذٌ يَأْخُذُ اِخْذٌ مَأْخُذٌ اِخْذٌ نَصْرٌ يَنْصُرُ اَنْصُرُ نَاصِرٌ مَنْصُورٌ نَصْرٌ گرامر 6d: اُرْسَلُ (اس نے بھیجا)، اَسْلَمَ (اس نے حکم مانا)
اَسْلَمٌ يُسْلِمُ اَسْلِمٌ مَسْلِمٌ مُسْلِمٌ اِسْلَامٌ اُرْسِلُ يُرْسِلُ اُرْسِلُ مُرْسِلٌ مُرْسِلٌ اِرْسَالٌ
صفحہ 7a: فرعون سے نجات
يَسْمُونَكُمْ سَوَاءٌ تمہیں دکھ دیتے تھے بُرے العذاب عذاب کا
سَامٌ يَسْمُومُ سُمٌ سَامِمٌ مَسْمُومٌ سَوْمٌ يَذْبَحُونَ اَبْنَاءَهُمْ ”وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو
ذَبَحٌ يَذْبَحُ اَذْبَحْ مَذْبَحٌ مَذْبَحٌ تَذْبِيحٌ اِبْنٌ - اَبْنَاءٌ + بیٹا
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ اور زندہ چھوڑ دیتے تھے امراة - نِسَاءٌ + عورت
فَرَقْنَا بَيْنَكُمْ الْبَحْرَ ہم نے پہاڑ کو تمہارے لیے دریا فَرَقٌ يَفْرُقُ اَفْرُقُ فَارِقٌ مَفْرُوقٌ فَرْقٌ بَحْرٌ - بَحَارٌ + سمندر
وَاعْرِفْنَا اِلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے دیکھا آل فرعون کو اَعْرَقٌ يَغْرُقُ اِعْرَقُ مَعْرُوقٌ مَعْرُوقٌ اِعْرَاقٌ نَظَرٌ يَنْظُرُ اَنْظُرُ نَاطِرٌ مَظْنُورٌ نَظْرٌ گرامر 7a: G7a: اِتَّخَذَ (اس نے بنالیا)، اِخْتَلَفَ (اس نے اختلاف کیا) اِخْتَلَفَ يَخْتَلِفُ اِخْتِلَافٌ مَخْتَلِفٌ مَخْتَلِفٌ اِخْتِلَافٌ اِخْتِلَافٌ ذَاقَ يَذُوقُ اَذُوقُ ذَائِقٌ مَذُوقٌ ذَوْقٌ
صفحہ 7b: چالیس راتیں
وَاعِدٌ يُوَاعِدُ وَاَعَدَ مُوَاعِدٌ مُوَاعِدٌ مُوَاعِدَةٌ اِتَّخَذَ (اس نے بنالیا)، اِخْتَلَفَ (اس نے اختلاف کیا) اِخْتَلَفَ يَخْتَلِفُ اِخْتِلَافٌ مَخْتَلِفٌ مَخْتَلِفٌ اِخْتِلَافٌ اِخْتِلَافٌ ذَاقَ يَذُوقُ اَذُوقُ ذَائِقٌ مَذُوقٌ ذَوْقٌ

اَلَيْلَةُ - اَلْيَالِي + رات
اِتَّخَذْتُمْ اَلْعِجْلَ تم نے بنا لیا بچھڑے کو
ظَلَمٌ يَظْلِمُ اِظْلَمُ ظَالِمٌ مَظْلُومٌ ظَلَمٌ ثُمَّ عَقَوْنَا اَعْنَكَمْ پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں
عَفَا يَعْفُو اَعْفَى عَافٍ مَعْفُوعٌ عَفْوٌ شَكَرٌ يَشْكُرُ اَشْكُرُ شَاكِرٌ مَشْكُورٌ شُكْرٌ گرامر 7b: G7b: اِسْتَعْفَرُوا (اس نے مغفرت مانگی) اِسْتَكْبَرُوا (اس نے تکبر کیا) اِسْتَعْفَرُوا يَسْتَعْفِرُونَ اِسْتَعْفَرٌ مَسْتَعْفِرٌ اِسْتِعْفَارٌ اِسْتَكْبَرُوا يَسْتَكْبِرُونَ اِسْتَكْبَرٌ مَسْتَكْبِرٌ اِسْتِكْبَارٌ
صفحہ 7c: بچھڑا اور توبہ
قَالَ يَقُولُ قَوْلٌ قَائِلٌ مَقُولٌ قَوْلٌ قَوْمٌ - اَقْوَامٌ + قوم
ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر
ظَلَمٌ يَظْلِمُ اِظْلَمُ ظَالِمٌ مَظْلُومٌ ظَلَمٌ سو تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے فَتَوْبُوا اِلَىٰ تَابٍ والے کی طرف
تَابٌ يَتُوبُ اِتَّابٌ تَابَةٌ - تَوْبَةٌ فَتَابَ عَلَيْهِمْ سوا سے توبہ قبول کی تمہاری
قَتَلَ يَقْتُلُ اِقْتُلُ قَاتِلٌ مَقْتُولٌ قَتْلٌ گرامر 7c: G7c: قَتَدُوا (اس نے غور کیا) تَوَكَّلُوا (اس نے بھروسہ کیا)
تَدَبَّرَ يَتَدَبَّرُ اِتَدَبَّرَ مُتَدَبِّرٌ مُتَدَبِّرٌ تَدَبُّرٌ تَوَكَّلْ يَتَوَكَّلُ تَوَكَّلْ مُتَوَكِّلٌ مُتَوَكِّلٌ تَوَكُّلٌ
صفحہ 7d: دکھاؤ اللہ کو!
نَوَىٰ اللّٰهُ جَهَنَّمَ ہم دیکھ لیں اللہ کو حکم کھلا رَأَىٰ يَرَىٰ رَاةٌ رَائِيٌّ رَأْيٌ فَاخَذْتُمْ الضُّعْفَةَ پھر تمہیں آلیا بجلی کی لاکٹ نے
أَخَذَ يَأْخُذُ اِخْذٌ مَأْخُذٌ اِخْذٌ صَاعِقَةٌ - صَوَاعِقُ + بجلی کی لاکٹ
بَعَثَ يَبْعَثُ اِبْعَثُ بَاعَثَ مَبْعُوثٌ بَعَثٌ وَعَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کیا تم پر ابدال کا ظَلَّلٌ يَظْلِلُ اِظْلَلُ مَظْلَلٌ مَظْلَلٌ تَظْلِيلٌ أَنْزَلَ يُنْزِلُ اَنْزَلَ مُنْزِلٌ مُنْزِلٌ اِنْزَالٌ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى من و سلوی
كَلُوا مِنَ طَيْبَاتٍ کھاؤ پاک چیزیں
طَيِّبَةٌ - طَيِّبَاتٌ + پاک
رَزَقٌ يَرْزُقُ اِرْزُقُ رَازِقٌ مَرْزُوقٌ رِزْقٌ گرامر 7d: G7d: قَدَّازَسَ (اس نے آپس میں بڑھایا) تَشَابَهَ (وہ ایک جیسا ہوا) اِنْقَلَبَ (وہ پھر گیا)، اِنْطَلَقَ (وہ چلا) تَدَارَسَ يَتَدَارَسُ تَدَارَسٌ مَتَدَارِسٌ - تَدَارَسٌ تَشَابَهَ يَتَشَابَهُ تَشَابَهٌ مَتَشَابِهٌ - تَشَابَهٌ اِنْقَلَبَ يَنْقَلِبُ اِنْقَلَبَ مَتَقَلِبٌ مَتَقَلِبٌ اِنْقِلَابٌ اِنْطَلَقَ يَنْطَلِقُ اِنْطَلَقَ مَتَنْطَلِقٌ مَتَنْطَلِقٌ اِنْطِلَاقٌ
صفحہ 8a: ہستی میں داخلہ
ادخلوا هذه القرية داخل ہواں ہستی میں
دَخَلَ يَدْخُلُ اَدْخُلُ دَاخِلٌ مَدْخُولٌ دَخُولٌ قَرِيَةٌ - قُرَى + گاؤں
أَكَلَ يَأْكُلُ كُلٌّ اِكْلٌ مَأْكُولٌ اَكْلٌ

شَاءَ يَشَاءُ شَاءٌ شَاءٌ مَشِيءٌ مَشِيئَةٌ وَعَدٌ يَزْعُدُ اِرْغَدٌ زَعْدٌ - رَعْدٌ بَابٌ - اَنْبَابٌ + دروازہ
سَاجِدٌ - سَجْدَةٌ + سجدہ کرنے والا
وَقَوْلًا حِطَّةً اور کہو بخش دے ہمیں
عَفَرَ يَعْفِرُ اِعْفِرْ عَافِرٌ مَعْفُورٌ مَغْفِرَةٌ حِطَّةً - حِطَّاتِيَا + گناہ
زَادَ يَزِيدُ اَزِيدُ زَادٌ مَزِيدٌ زِيَادَةٌ أَحْسَنُ يَحْسِنُ اِحْسِنُ مُحْسِنٌ مُحْسِنٌ اِحْسَانٌ بدل دیاں لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا
بَدَّلَ يُبَدِّلُ اِبْدِلُ مُبَدِّلٌ مُبَدِّلٌ تَبْدِيلٌ فَأَنْزَلْنَا عَلَيَّ پھر ہم نے اتارا ان لوگوں پر
الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا جنہوں نے ظلم کیا عذاب
أَنْزَلَ يُنْزِلُ اَنْزَلَ مُنْزِلٌ مُنْزِلٌ اِنْزَالٌ ظَلَمٌ يَظْلِمُ اِظْلَمُ ظَالِمٌ مَظْلُومٌ ظَلَمٌ كَانَ يَكُونُ كُنَى كَابِنٌ - كَوْنٌ فَسَقَ يَفْسُقُ اِفْسُقُ فَاسِقٌ - فِسْقٌ فُسُوقٌ گرامر 8a: G8a: مَزِيدٌ فِيهِ كَمُزُورٌ اِفْعَالٌ كَا تَعَارَفَ
صفحہ 8b: پانی کی دعا
اِسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ پانی مانگا موسیٰ نے
اَضْرَبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ مارا پتلی لاٹھی پتھر پر
ضَرَبَ يَضْرِبُ اِضْرَبْ ضَارِبٌ مَضْرُوبٌ ضَرْبٌ فَأَنْفَجَرَتْ مِنْهُ تو پھوٹ پڑے اس سے
اِسْتَنَّا عَشْرَةَ عَيْنًا بَارِعَتِي عَيْنٌ - عَيْنُونَ + چشمہ
عَلِمَ كُلُّ اَنْبِيَا قَسْمِهِمْ جان لیہر قوم نے اپنا گھات
عَلِمَ يَعْلَمُ اِعْلَمُ عَالِمٌ مَعْلُومٌ عِلْمٌ مَشْرُوبٌ - مَشَارِبٌ + پانی پینے کی جگہ
شَرِبَ يَشْرَبُ اِشْرَبْ شَارِبٌ مَشْرُوبٌ شَرْبٌ رَزَقٌ يَرْزُقُ اِرْزُقُ رَازِقٌ مَرْزُوقٌ رِزْقٌ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْاَرْضِ اور نہ پھرو زمین میں
عَفِيٌّ يَعْفِي اِعْفَ عَافٍ - عَفِيَانٌ عَفِيٌّ مَفْسِدِينَ فساد پچھاتے ہوئے
اَفْسَدَ يُفْسِدُ اِفْسِدُ مَفْسِدٌ مَفْسِدٌ اِفْسَادٌ گرامر 8b: G8b: وَلِيٌّ (وہ پھر گیا)، نَجَى (اس نے نجات دی)
وَلِيٌّ يُوَلِّيُّ وِلٌّ مَوْلٍ - تَوَلِيَّةٌ نَجَى يُنَجِّي نَجٌّ مَنَجٌّ - تَنْجِيَّةٌ
صفحہ 8c: کھانا کامطالہ
صَبَّرَ يَصْبِرُ اِصْبِرْ صَابِرٌ - صَبْرٌ طَعَمٌ يَطْعَمُ اِطْعَمْ طَاعِمٌ مَطْعُومٌ طَعْمٌ، طَعَامٌ طَعَامٌ - اَطْعَمَةٌ + کھانا
دَعَا يَدْعُو اُدْعُ دَاعٍ مَدْعُوعٌ دُعَاءٌ اَخْرَجَ يُخْرِجُ اَخْرِجْ مَخْرُجٌ مَخْرُجٌ اِخْرَاجٌ لَتُنْبِتِ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا اگانے بہ زمین کچھ ترکاری
اَنْبَتَ يُنْبِتُ اَنْبَتٌ مُنْبِتٌ مُنْبِتٌ اِنْبَاتٌ وَقَاتِلَهَا وَقَوْمَهَا اور لڑائی اور گندم

وَعَدَسَهَا وَتَصَلِّهَا اور مسوا اور پیرا
أَسْتَعِيدُونَ الَّذِي هُوَ کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو آدنی معمول ہے؟
اسْتَعِيدَ اسْتَعِيدَ اسْتَعِيدَ اسْتَعِيدَ اسْتَعِيدَ اہبطوا مضراً آزوشہر میں
هَبِطْ يَهْبِطْ اِهْبِطْ هَابِطْ مَهْبُوطْ هُبُوطْ سَأَلَ يَسْأَلُ سَأَلَ سَأَلًا سَأَلْتُ سَأَلْتُ گرامر G8c:
نَادَى (اس نے پکارا)، لَاقَى (اس نے ملاقات کی) نَادَى يُنَادِي نَادٍ مُنَادٍ مُنَادًى مُنَادَاةٌ لَاقَى يُلَاقِي لَاقٍ مُلَاقٍ مُلَاقًى مُلَاقَاةٌ
صفحہ 8d: سزا
وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمْ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور الذَّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ مخائبی
ذَلَّ يَذِلُّ اِذْلَلَّ اِذْلَالًا مَذَلَّةٌ وَبَاءَهُ وَبَغَضَ اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ
بَاءَ يَبُوءُ بُوًى بَاءٌ - بَوَاءٌ غَضِبَ يَغْضَبُ اغْتَضَبَ غَاظِبٌ مَغْضُوبٌ غَضَبٌ كَفَرَ يَكْفُرُ اكْفُرُ كَافِرٌ مَكْفُورٌ كُفْرٌ
آية - آیات + نشانى
قَتَلَ يَقْتُلُ اِقْتُلْ قَاتِلٌ مَقْتُولٌ قَتْلٌ نَبِيٍّ - أَنْبِيَاءٌ + نبی
ذَلِكْ بِمَا عَصَا یہ اس لیے ہو کہ انہوں نے نا فرمانی کی
عَصَى يَعْصِي اِعْصَى عَاصٍ مَعْصِيَةٌ مَعْصِيَةٌ وَكَاثِرًا يَعْثُرُونَ اور وہ حد سے بڑھتے تھے
گرامر G8d: اَقَامَ (اس نے قائم کیا) أَرَادَ (اس نے ارادہ کیا)
أَقَامَ يُقِيمُ أَقِيمٌ مُقِيمٌ مَقَامٌ إِقَامَةٌ أَرَادَ يُرِيدُ أَرَادَ مُرِيدٌ مُرَادٌ إِرَادَةٌ
صفحہ 9a: عام قاعدہ
هَادُوا وَالتَّضَرُّى یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابئی والتَّضَرِّيِّينَ
هَادٌ يَهْدُوهُ هَدًى هَادٍ مَهْدُودٌ فِيهِ هَدًى عَمِلَ يَعْمَلُ اِعْمَلْ عَامِلٌ مَعْمُولٌ عَمَلٌ صَلَحَ يَصْلَحُ اِصْلَحْ صَالِحٌ - صَلَاحٌ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ توان کے لیے ان کا اجر
أَجْرٌ يَأْجُرُ أَوْجُرُ أَوْجُرٌ مَأْجُورٌ أَجْرٌ اجرا بدلہ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر
خَافَ يَخَافُ خَفًى خَائِفٌ مَخْوفٌ خَوْفٌ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ اور نہ وہ تمہیں ہوں گے
خَزَنَ يَخْزِنُ اِخْزَنَ خَزْنٌ مَخْزُونٌ خَزْنٌ خُزْنٌ گرامر G9a: أَلْفَى (اس نے ڈالا)، أَوْحَى (اس نے وحی کی)
أَلْفَى يُلْفِي أَلْفًى مَلْفًى اِلْفَاءٌ أَوْحَى يُوحِي أَوْحٌ مَوْحًى اِيْحَاءٌ

صفحہ 9b: طور کا وعدہ
أَخَذَ يَأْخُذُ اخْذٌ مَأْخُودٌ اخْذٌ رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الظُّلُومَ ہم نے اٹھایا تم پر کوہ طور
رَفَعَ يَرْفَعُ اِرْفَعُ مَرْفُوعٌ رَفَعٌ ذَكَرَ يَذْكَرُ اذْكَرُ ذَاكِرٌ مَذْكَورٌ ذِكْرٌ ذِكْرَى ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر تم پھر گئے
فَضَّلَ اللهُ فضل اللہ کا
فَضَّلَ يَفْضُلُ اِفْضُلْ فَاضِلٌ - فَضْلٌ خَسِرَ يَخْسِرُ اِخْسِرْ خَاسِرٌ مَخْسُورٌ خُسْرٌ خَاسِرٌ - خَاسِرُونَ، خَاسِرِينَ + تقصان اٹھانے والا
گرامر G9b: أَمِنَ (وہ ایمان لایا)، اَتَّقَى (اس نے خرچ کیا) أَمِنَ يُؤْمِنُ اِمْنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ اِيْمَانٌ أَتَّقَى يُتَّقَى اتَّقَى مُتَّقٍ مُتَّقًى اِتِّقَافٌ
صفحہ 9c: ہفتہ کے مجرم
اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي زیادتی کی تم میں سے ہفتہ کے النسب دن میں
كُونُوا قِرْدَةً خَاسِيَةً تم ہو جاؤ ذلیل بندر خَسَأَ يَخْسَأُ اِخْسَأْ خَاسِيَةٌ - خَسَاءٌ خَاسِيَةٌ - خَاسِيُونَ + خَاسِيَةٌ ذِيلٌ جَعَلَ يَجْعَلُ اِجْعَلْ جَاعِلٌ مَجْعُولٌ جَعْلٌ نَكَالًا لِمَا بَيْنَ ایک عبرت کا سبب ان کے اگلوں يَدِينُهَا وَمَا خَلْفَهَا اور پچھلوں کے لیے
نَكَالٌ عبرت
وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور پیر ہزاروں کے لیے نصیحت وَعِظٌ يَعِظُ عِظٌ مَوْعُوظٌ وَعِظَةٌ مَوْعِظَةٌ - مَوْاعِظٌ، نصیحت
گرامر G9c: اَضَلَّ (اس نے گمراہ کیا)، أَحَبَّ (اس نے پسند کیا) أَضَلَّ يَضِلُّ اِضْلَلْ مُضِلٌّ مُضِلٌّ اِضْلَالٌ أَحَبَّ يُحِبُّ اِحْبَبْ مُحِبٌّ مُحِبٌّ اِحْتِبَابٌ
صفحہ 9d: بقرہ کا قصہ
أَمَرَ يَأْمُرُ مُرٌّ مَأْمُورٌ أَمْرٌ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً کہ تم ذبح کرو ایک گائے
ذَبَحَ يَذْبَحُ اِذْبَحْ ذَابِحٌ مَذْبُوحٌ ذَبْحٌ ذَبْحٌ هَرَأَ يَهْرَأُ اِهْرَأْ هَارِيٌّ مَهْرُوءٌ هَرُوءٌ هَرُوءٌ عَادَ يَعُوذُ عُدَّ عَائِدٌ مَعُوذٌ عَوْدٌ عِيَادَةٌ مِنَ الْجَاهِلِينَ جاہلوں میں سے
جَهَلٌ يَجْهَلُ اِجْهَلْ جَاهِلٌ مَجْهُولٌ جَهْلٌ جَهَالَةٌ جَاهِلٌ - جَاهِلُونَ + جَاهِلِينَ + جَاهِلٌ دَعَا يَدْعُوُ ادْعُ دَاعٍ مَدْعُودٌ دَعْوَةٌ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ بتلائے ہمیں کیسی ہے وہ
بَيَّنَّ يُبَيِّنُ اِبْيَنَ مُبَيِّنٌ مُبَيَّنٌّ تَبْيِينٌ لَا فَاْرِضٌ نہ بوڑھی ہو
فَارَضَ يَفْرُضُ اِفْرُضْ فَارِضٌ - فَرَاضَةٌ فَارِضٌ - فَرُوضٌ + بوڑھی
وَلَا يَكْفُرُ اور نہ چھوٹی عمر کی ہو

بَكَرٌ - أَبْكَارٌ + چھوٹی عمر والا
عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكْ جوان ہونے درمیان
صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا زر رنگ کی، خوب گہرا ہوا اس کارنگ
فَقَعَ يَفْقَعُ اِفْقَعْ فَاقِعٌ - فُقُوعٌ لَوْنٌ - أَلْوَانٌ + رنگ
تَشَرُّوا النَّظْرَيْنِ اچھا لگے دیکھنے والوں کو
سَرَ يَسُرُّ اَسْرُرْ سَارٌ مَسْرُورٌ سُرُورٌ نَظَرَ يَنْظُرُ اَنْظُرْ نَاطِرٌ مَنظُورٌ نَظَرٌ گرامر G9d: أَفَى (اس نے دیا)، اَذَى (اس نے تکلیف دی) أَفَى يُؤْفِي اَفًى مُؤْفًى اِيْفَاءٌ أَذَى يُؤْذِي اِذٌ مُؤْذٍ مُؤْذًى اِيْذَاءٌ
صفحہ 10a: تیسرا سوال
دَعَا يَدْعُوُ ادْعُ دَاعٍ مَدْعُودٌ دُعَاةٌ بَيَّنَّ يُبَيِّنُ اِبْيَنَ مُبَيِّنٌ مُبَيَّنٌّ تَبْيِينٌ إِنَّ الْبَقْرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا گائے میں ہمیں اشتباہ ہو گیا
تَشَابَهَةٌ يَتَشَابَهُ تَشَابَهُ مَتَشَابِهٌ - تَشَابِهٌ شَاءَ يَشَاءُ اِشَاءْ شَاءٌ مَشِيءٌ شَيْءٌ اِهْتَدَى يَهْتَدِي اِهْتَدِ مِهْتَدٍ مَهْتَدًى اِهْتِدَاءٌ مِهْتَدٌ - مِهْتَدُونَ + مِهْتَدِينَ + ہدایت پانے والا
لَا ذَلُولَ تُبِيتُ الْأَرْضَ نہ سردھی ہوئی ہونہ زمین جوتی ہو ذَلَّ يَذِلُّ اِذْلَلْ ذَلٌّ ذُلٌّ ذُلٌّ أَثَارٌ يُبْثِرُ اِثْبِرْ مِثْرٌ اِثْرَةٌ وَلَا تَسْقَى الْحَزْنَ اور نہ پانی پینے ہو کھجک کو
سَقَى يَسْقِي اِسْقِ سَاقٍ مَسْقًى سَقًى بے عیب ہونہ کوئی داغ مُسَلَّمَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا ہواں میں
سَلَّمَ يُسَلِّمُ سَلِّمْ مُسَلِّمٌ مُسَلِّمٌ سَلَامٌ جَاءَ يَجِيءُ اِجِئْ جَائٌ - جِيئَةٌ كَادَ يَكَادُ كَادٌ - - - كَوْدٌ گرامر G10a: اِهْتَدَى (وہ ہدایت پایا) اِبْتَعَى (اس نے چاہا)
اِهْتَدَى يَهْتَدِي اِهْتَدِ مِهْتَدٍ مَهْتَدًى اِهْتِدَاءٌ اِبْتَعَى يَبْتَعِي اِبْتَعِ مَبْتَعٌ مَبْتَعًى اِبْتِعَاءٌ
صفحہ 10b: قاتل کون؟
قَتَلَ يَقْتُلُ اِقْتُلْ قَاتِلٌ مَقْتُولٌ قَتْلٌ فَأَذْرَعْتُمْ فِيهَا پھر تم بھگڑنے لگے اس میں
إِذَارًا يَدَارِي اِذَارٌ اِمْدَارٌ اِمْدَارَةٌ أَخْرَجَ يَخْرُجُ اِخْرَجْ اِخْرَاجٌ مَخْرَجٌ اِخْرَاجٌ كَتَمَ يَكْتُمُ اِكْتُمْ كَاتِمٌ مَكْتُومٌ كِتْمَانٌ اِضْرَبُوهُ بِنَعْصِهَا اسے مارو اس کے ایک ٹکڑے سے
ضَرَبَ يَضْرِبُ اِضْرِبْ ضَارِبٌ مَضْرُوبٌ ضَرْبٌ أَخْبَأَ يَخْبِئِي اِخْبِئِ اِخْبِئِي اِخْبِئَاءٌ مَيِّتٌ - مَوْتٌ + میت/مردہ شخص
أَرَى يُرَى اِرْ أَرٌ مُرًى اِرَاءَةٌ عَقَلَ يَعْقِلُ اِعْقَلْ عَاقِلٌ مَعْقُولٌ عَقْلٌ

گرامر G10a: اِثْقَلُ (وہ ڈرا) اِفْتَرَى (اس نے جھوٹ گھڑا)
اِثْقَى يَثْقِي اِثْقًى مَثْقًى مَثْقًى اِثْقَاءٌ اِفْتَرَى يَفْتَرِي اِفْتَرٌ مَفْتَرٌ مَفْتَرًى اِفْتِرَاءٌ
صفحہ 10c: سخت دل
قَسَتْ قَلْبُكُمْ سخت ہو گئے تمہارے دل
أَشَدُّ قَسْوَةً اس سے زیادہ سخت
قَسَا يَقْسُوُ اِقْسُ قَابِسٌ - قَسَاوَةٌ قَلْبٌ - قَلُوبٌ + دل
حَجَرَ - حِجَارَةٌ + أَحْجَارٌ + پتھر
شَدِيدٌ - أَشَدُّ سخت
البتہ پھوٹ نکلتی ہیں ان سے نہیں
تَفَجَّرَ يَتَفَجَّرُ تَفَجَّرٌ مَتَفَجَّرٌ - تَفَجُّرٌ البتہ جو پھٹ جاتے ہیں
لَمَّا يَتَشَقَّقُ اِسْتَقَّقَ اِسْتَقَّقَ اِسْتَقَّقَ اِسْتَقَّقَ اِسْتَقَّقَ خَرَجَ يَخْرُجُ اِخْرَجْ خَارِجٌ - خُرُوجٌ يَهْبِطُ مِنْ خَشِيَةِ اللهِ گریزتے ہیں اللہ کے ڈر سے
هَبِطَ يَهْبِطُ اِهْبِطْ هَابِطٌ مَهْبُوطٌ هُبُوطٌ خَشِيَ يَخْشَى اِخْشَ اِخْشَى مَخْشِيٌّ خَشْيَةٌ عَقَلَ يَعْقِلُ اِعْقَلْ عَاقِلٌ مَعْقُولٌ عَقْلَةٌ گرامر G10c: اِسْتَقَامَ (وہ ثابت قدم رہا) اِسْتِطَاعَ (اس نے طاقت رکھی) اِسْتَقَامَ يَسْتَقِيمُ اِسْتَقِمْ اِسْتَقِيمٌ اِسْتِقَامَةٌ اِسْتِطَاعَ يَسْتِطِيعُ اِسْتِطِعْ اِسْتِطِيعٌ اِسْتِطَاعَةٌ
صفحہ 10d: کلام تبدیل
کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ اِقْتَضَمُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا مان لیں گے
طَمِعَ يَطْمَعُ اِطْمَعْ طَامِعٌ مَطْمُوعٌ طَمَعٌ أَمِنَ يُؤْمِنُ اِمْنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ اِيْمَانٌ سَمِعَ يَسْمَعُ اِسْمِعْ سَامِعٌ سَمِيعٌ مَسْمُوعٌ سَمْعٌ ثُمَّ يَخْرِقُونَهُ پھر وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو
مَا عَقَلُوهُ جو انہوں نے سمجھ لیا
خَرَفَ يَخْرِفُ اِخْرِفْ مَخْرِفٌ مَخْرِفٌ اِخْرِيفٌ لَقِيَ يَلْقَى اِلْقَ لِقَاءٌ مَلْقًى لِقَاءٌ خَلَا يَخْلُو اِخْلُ خَالٌ - خُلُوٌّ قَالُوا اَنْحَدِثُوا نَهْمٌ وہ کہتے ہیں کیا تم بتلاتے ہو انہیں؟
حَدَّثَ يَحْدِثُ اِحْدِثْ حَدِيثٌ مَحْدُوثٌ حَدِيثٌ حَدِيثٌ فَتَحَّ اللهُ عَلَيْنَا ظاہر کیا اللہ نے تم پر
فَتَحَّ يَفْتَحُ اِفْتَحْ فَاتِحٌ مَفْتُوحٌ فَتْحٌ خَاجٌ يَخَاجُ اِخْجِجْ خَاجٌ مَخْجٌ مَخْجَةٌ گرامر G10d: تَوَلَّى (اس نے منہ بھیرا) تَوَلَّى (اس نے جان نکالی) تَوَلَّى يَتَوَلَّى تَوَلَّى مُتَوَلٍّ مُتَوَلٍّ تَوَلَّى تَوَلَّى يَتَوَلَّى تَوَلَّى مُتَوَلٍّ مُتَوَلٍّ تَوَلَّى
مختلف کورس کی ویڈیو اور فائلس کے لیے ہماری ویب سائٹ پر تشریف لائیے www.understandquran.com